



Kalimah

OCTOBER 2022

The Holy Quran/ Kalimah

Self-Study / Teaching Guide

Click on each reference below to learn more about this month's verses

An-Nisa' 4:49

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(new\)](#) (Vol. 3 pg 314)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 2 pg 26-28)

[Darsul Quran: 31 Dec 1997 \(Urdu\)](#) (relevant part starts at 37:50)

[Darsul Quran: 1 Jan 1998 \(Urdu\)](#) (from start of video)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 658)

Al-A'raf (7:159)

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(new\)](#) (Vol. 4 pg 242-250)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 2 pg 235-237)

[Anwarul Quran](#) (Vol. 2 pg 152-163)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 2 pg 1050-1051)

Al-Ahzab (33:41)

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(new\)](#) (Vol. 6 pg 345-394)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 3 pg 414-416)

[Darsul Quran: 9 Dec 1997 \(Urdu\)](#) (relevant part starts at 21:59)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 4 pg 2576-2578)

Al Hujurat (49:16)

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(new\)](#) (Vol. 7 pg 258-259)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 4 pg 9)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 5 pg 2965-2966)

Al Hashr (59:23-25)

URDU

[Tafsir Hazrat Masih Mau'ud^{as} \(new\)](#) (Vol. 7 pg 387-390)

[Haqaiqul Furqan](#) (Vol. 4 pg 69-70)

[Anwarul Quran](#) (Vol. 3 pg 432-435)

[Darsul Quran: 28 Oct 1998 \(Urdu\)](#) (relevant part starts at 48 :20)

[Darsul Quran: 3 Nov 1998 \(Urdu\)](#) (from start of video)

ENGLISH

[English w/5-Volume Commentary](#) (Vol. 5 pg 3131-3132)

FRIDAY SERMON

[The All Powerful One God](#) (April 18, 2014)

An-Nisa' 4:49

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٩﴾

Surely, Allah will not forgive that any partner be associated with Him; but He will forgive whatever is short of that to whomsoever He pleases. And whoso associates partners with Allah has indeed devised a very great sin.

یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لئے وہ چاہے۔
اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اُس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔

و	بِهِ	يُشْرَكَ	أَنْ	يَغْفِرُ	لَا	اللَّهُ	إِنَّ
and	with him	partner be associated	that	He forgives	not	Allah	surely
و	يَشَاءُ	لِمَنْ	ذَلِكَ	دُونَ	مَا	يَغْفِرُ	
and	He pleases	whomsoever	that	is short of	what	He forgives	
عَظِيمًا	إِثْمًا	افْتَرَىٰ	فَقَدْ	بِاللَّهِ	يُشْرِكُ	مَنْ	و
great	sin	he devised	then indeed	with Allah	he associates partner	whoso	and

يَغْفِرُ	وَ	بِهِ	يُشْرِكُ	أَنْ	يَغْفِرُ	لَا	اللَّهُ	إِنَّ
وہ بخش دیتا ہے	اور	اس کا	شریک ٹھہرایا جاتا ہے	کہ	وہ بخشتا ہے	نہیں	اللہ	یقیناً
فَقَدْ	بِاللَّهِ	يُشْرِكُ	وَمَنْ	يَشَاءُ	لِبَنِّ	مَا دُونَ ذَلِكَ		
تو یقیناً	اللہ کا	وہ شریک ٹھہراتا ہے	اور جو	وہ چاہتا ہے	اس کے لئے	جو اس کے علاوہ ہو		
		عَظِيمًا	إِنَّمَا	اَفْتَرَى				
		بہت بڑا	گناہ	اس نے افترا کیا				

Al-A'raf 7:159

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٩﴾

Say, 'O mankind! truly I am a Messenger to you all from Allah to Whom belongs the kingdom of the heavens and the earth. There is no God but He. He gives life, and He causes death. So believe in Allah and His Messenger, the Prophet, the Immaculate one, who believes in Allah and His words; and follow him that you may be rightly guided.'

نوٹ کہ دے کہ اے انسانو! یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی اُمّی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اُسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

قُلْ	يَا أَيُّهَا	النَّاسُ	إِنِّي	رَسُولُ	اللَّهِ	إِلَيْكُمْ	جَمِيعًا
you say	O you	mankind	truly I am	Messenger	Allah	to you	all
الَّذِي	لَهُ	مُلْكُ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	لَا	إِلَهَ	
to Whom	for Him	kingdom	heavens	and	no	god / deity	
إِلَّا	هُوَ	وَيُحْيِي	وَيُمِيتُ	فَأَمِنُوا	بِاللَّهِ		
but	He	He gives life	and	so you believe	in Allah		

و	رَسُولِهِ	النَّبِيِّ	الْأُمِّيِّ	الَّذِي	يُؤْمِنُ
and	His Messenger	the Prophet	the unlettered	who	he believes

بِاللَّهِ	وَ	كَلِمَاتِهِ	وَ	اتَّبِعُوهُ	لَعَلَّكُمْ	تَهْتَدُونَ
in Allah	and	His words	and	you follow him	so that you	you be guided

قُلْ	يَا أَيُّهَا	النَّاسُ	إِنِّي	رَسُولُ	اللَّهِ	إِلَيْكُمْ	جَمِيعًا
تو کہہ دے	اے	لوگ	یقیناً میں	رسول	اللہ	تمہاری طرف	سب کے سب

الَّذِي	لَهُ	مُلْكُ	السَّمَوَاتِ	وَ	الْأَرْضِ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا
وہ جو	اس کے لئے	بادشاہی	آسمان (جمع)	اور	زمین	نہیں	معبود	مگر

هُوَ	يُحْيِي	وَ	يُمِيتُ	فَأَمِنُوا	بِاللَّهِ	وَ	رَسُولِهِ
وہ	وہ زندہ کرتا ہے	اور	وہ مارتا ہے	پس تم ایمان لے آؤ	اللہ پر	اور	اس کا رسول

النَّبِيِّ	الْأُمِّيِّ	الَّذِي	يُؤْمِنُ	بِاللَّهِ	وَ	كَلِمَاتِهِ	وَ
نبی	اُمی	وہ جو	وہ ایمان لاتا ہے	اللہ پر	اور	اس کے کلمات	اور

اتَّبِعُوهُ	لَعَلَّكُمْ	تَهْتَدُونَ
تم اس کی پیروی کرو	تاکہ تم	تم ہدایت پاتے ہو

Al-Ahzab 33:41

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤١﴾

Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and the Seal of the Prophets; and Allah has full knowledge of all things.

محمد تمہارے (جیسے) مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔

مَا	كَانَ	مُحَمَّدٌ	أَبَا	أَحَدٍ	مِّنْ	رِّجَالٍ	كُمُ	وَ	لَكِن	رَّسُولَ	اللَّهِ
not	is	Muhammad	father	any one	of	men	your	and	but	Messenger	Allah
وَ	خَاتَمَ	النَّبِيِّنَ	وَ	كَانَ	اللَّهُ	بِ	كُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمًا		
and	seal	of prophets	and	is	Allah	with	all	things	full knowledge		

مَا	كَانَ	مُحَمَّدٌ	أَبَا	أَحَدٍ	مِّنْ	رِّجَالِكُمْ	وَلَكِن	رَّسُولَ	اللَّهِ	وَ	خَاتَمَ
نہیں	وہ تھا	محمد	باپ	ایک	سے	تمہارے مرد	لیکن	رسول	اللہ	اور	خاتم / مہر
وَ	كَانَ	اللَّهُ	بِ	كُلِّ							
اور	وہ تھا	اللہ	ہر ایک کا								

Al-Hujurat 49:16

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦﴾

The believers are only those who truly believe in Allah and His Messenger, and then doubt not, but strive with their possessions and their persons in the cause of Allah. It is they who are truthful.

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔

إِنَّمَا	الْمُؤْمِنُونَ	الَّذِينَ	آمَنُوا	بِ	اللَّهِ	وَ	رَسُولِهِ	ثُمَّ	لَمْ	يَرْتَابُوا	وَ	جَاهَدُوا	بِ	أَمْوَالِهِمْ	وَأَنْفُسِهِمْ	فِي	سَبِيلِ	اللَّهِ	أُولَئِكَ	هُمُ	الصَّادِقُونَ	
only	the believers	those who	believe	with	Allah	and	Messenger	then	His	they doubt	and	strive	with	possessions	and	their	persons	in	Allah	those	they	the truthful
وَأَنْفُسِهِمْ	فِي	سَبِيلِ	اللَّهِ	أُولَئِكَ	هُمُ	الصَّادِقُونَ																
persons	in	way	Allah	those	they	the truthful																

رَسُولِهِ	وَ	بِاللَّهِ	وَأَمَنُوا	الَّذِينَ	الْمُؤْمِنُونَ	إِنَّمَا
اس کا رسول	اور	اللہ پر	وہ ایمان لائے	وہ لوگ	مومنین (جمع)	یقیناً، محض، صرف
وَ	بِأَمْوَالِهِمْ	جُهَدُوا	وَ	لَمْ يَرْتَابُوا	ثُمَّ	
اور	ان کے اموال کے ساتھ	انہوں نے جہاد کیا	اور	وہ شک میں مبتلا نہ ہوئے	پھر	
الصَّادِقُونَ	هُمْ	أَوْلِيَاكَ	اللَّهُ	سَبِيلِ	فِي	أَنْفُسِهِمْ
سچ بولنے والے	وہ (جمع)	یہ لوگ	اللہ	راستہ	میں	ان کی جانیں

Al-Hashr 59:23-25

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عُلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾

He is Allah, and there is no God beside Him, the Knower of the unseen and the seen. He is the Gracious, the Merciful.

He is Allah, and there is no God beside Him, the Sovereign, the Holy One, the Source of Peace, the Bestower of Security, the Protector, the Mighty, the Subduer, the Exalted. Holy is Allah far above that which they associate with Him.

He is Allah, the Creator, the Maker, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies Him, and He is the Mighty, the Wise.

وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے (اور) کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اُس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔

وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا۔ پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصوّر ہے۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ کامل غلبہ والا (اور) صاحبِ حکمت ہے۔

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ

He Allah Who no worthy of worship but He the Knower and unseen

الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

the seen He the Gracious the Merciful

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْقُدُّوسُ

He Allah Who no worthy of worship but He the Sovereign the Holy One

السَّلَامُ الْمَوْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

the Source of Peace Bestower of Security the Protector the Mighty the Subduer

الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

the Exalted Holy from that they associate

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُبْصِرُ لَ هُ الْأَسْمَاءُ

He Allah the Creator the Maker the Fashioner for Him names

الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَ هُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ

most beautiful glorify for Him that in the heavens and

الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

the earth and He is the Mighty the Wise

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ

وہ اللہ وہ جو نہیں معبود سوائے وہ جاننے والا غیب اور

الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

حاضر وہ بے انتہار حم کرنے والا، بن مانگے دینے والا بار بار رحم کرنے والا

هُوَ	اللَّهُ	الَّذِي	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	هُوَ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ
وہ	اللہ	وہ جو	نہیں	معبود	سوائے	وہ	بادشاہ	پاک
السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيِّبُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ			
سلام	امن دینے والا	نگہبان	کامل غلبہ والا	ٹوٹے کام بنانے والا	کبریائی والا			
سُبْحٰنَ	اللّٰهِ	عَمَّا	يُشْرِكُونَ					
پاک ہے	اللہ	اس سے جو	وہ شرک کرتے ہیں					
هُوَ	اللَّهُ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ	لَهُ	الْأَسْمَاءُ		
وہ	اللہ	پیدا کرنے والا	پیدائش کا آغاز کرنے والا	مصوّر	اس کے لئے	نام (جمع)		
الْحُسْنٰى	يُسَبِّحُ	لَهُ	مَا	فِي	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْأَرْضِ	
خوبصورت	وہ تسبیح کرتا ہے	اس کے لئے	جو	میں	آسمان (جمع)	اور	زمین	
وَ	هُوَ	الْعَزِيزُ	الْحَكِيمُ					
اور	وہ	کامل غلبہ والا	حکمت والا					

Advanced Reading (Optional)

Commentary of Surah Al-Fatihah from Tafsir-ul-Kabir

<https://www.alislam.org/quran/view/?page=0®ion=T1&CR=كلامُ الله>

**Introducing At-Tafsīr-ul-Kabīr: The Grand Exegesis
Surah Al-Fatihah**

<https://www.reviewofreligions.org/14635/introducing-at-tafsir-al-kabir/>

Kalamullah: The Word of God

<https://www.reviewofreligions.org/22375/kalamullah-the-word-of-god/>

Tarteelul Quran / 5-minute Review

Keeping in mind the level of knowledge of members, please take **5 minutes in every class** to teach the rules of the **correct recitation** of the Holy Quran.

The following are resources that teachers/self-learners may find beneficial:

Qaidah Tarteelul Quran (Urdu) <https://www.alislam.org/urdu/pdf/Tarteel-ul-Quran.pdf>

Qaidah Tarteelul Quran (English) <https://www.alislam.org/quran/English-Qaida-Tarteel-ul-Quran.pdf>

Al-Tarteel – an English language MTA program teaching the correct pronunciation of the Holy Quran with Hafiz Fazle Rabbi (55 episodes) <https://www.alislam.org/media/program/al-tarteel/>

Note: Accompanying pdf of PPT for each episode available at alislam.org by searching “Al Tarteel Lesson [insert class number]”

حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحتج البيت إن استطعت إليه سبيلًا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تليد الأمة رببتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليًا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

(مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والاسلام 1)

حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہمارے پاس ایک بہت سفید کپڑوں میں ملبوس بہت سیاہ بالوں والا آدمی آیا، نہ تو اس پر کوئی سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہی اُسے ہم میں سے کوئی جانتا تھا یہاں تک کہ وہ نبی ﷺ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے آپ کے دونوں گھٹنوں سے لگا دیئے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھے اور پھر کہا کہ اے محمد ﷺ! مجھے اسلام کے بارہ میں (کچھ) بتائیے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا

کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمرؓ نے کہا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ (خود) ہی آپ سے سوال کرتا ہے اور (خود) ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارہ میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ (ایمان یہ ہے کہ) تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخری دن پر اور اس کی خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارہ میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ (احسان یہ ہے کہ) تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس گھڑی کے بارہ میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر وہ چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہاں رہا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمرؓ! کیا تم جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیلؑ تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے تمہارے پاس آئے تھے۔

Umar ibn Khattab^{ra} relates: “We were sitting one day with the Holy Prophet^{sa} when a man appeared among us whose clothes were of an intense whiteness, whose hair was very black, who bore no mark of travel and who was not known to any of us. He sat down in front of the Holy Prophet^{sa}, their knees touching, and placing his hands on his thighs he said: ‘Muhammad, tell me about Islam.’

The Holy Prophet^{sa} said: ‘Islam is that you should bear witness that there is no one worthy of worship save Allah alone and that Muhammad is His Messenger, and that you should observe Prayer, pay the Zakat, observe the fast during Ramadhan, and perform the Pilgrimage to the House if you can afford the journey either.’

The man said: ‘That is right.’ We were surprised that he inquired and also confirmed the correctness of the answer. He then said: ‘Tell me about faith.’

The Holy Prophet^{sa} said: ‘That you should believe in Allah, His Angels, His Books, His Messengers, the Last Day, and that you should believe that He determines the measure of good and evil.’

The man said: 'That is right. Now tell me about the due performance of obligations.' The Holy Prophet^{sa} said: 'That you should worship Allah as if you are beholding Him, and if not then in the consciousness that He is watching you.'

The man said: 'Now tell me about the Hour of Judgement.'

The Holy Prophet^{sa} said: He who is being asked knows no more about it than the one who asks.'

The man then said: 'Well, tell me some of the signs of its approach.'

The Holy Prophet^{sa} made the answer: 'That the handmaiden should give birth to her master and that barefooted, bare bodied, penurious goatherds should be seen lording it in great mansions.' Then the man departed, and I remained for a while.

The Holy Prophet^{sa} said to me: 'Umar, do you know who the questionnaire was?'

I said: 'Allah and His Messenger know best.'

He^{sa} said: 'It was Gabriel who came to instruct you in your faith'.

Source: [Hadigatus Saliheen 2019](#) (Urdu), #171 2nd Hadith, pg. 209 & [Gardens of the Righteous](#) (English), #60 pg. 9

Hadith for Class #2 / Kalimah

۹۰۳ — عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ
رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ !
هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا
يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا
يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ :
لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا .

(مسلم کتاب الایمان باب من لقی اللہ بالایمان وهو غیر شاک فیہ دخل الجنة وحرّم علی النار)

حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سواری کے گدھے پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا حضورؐ نے فرمایا۔
معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا
کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا
بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو
شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ بندوں میں سے جو
شرک کا مرتکب نہ ہو اسے سزا نہ دے۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا میں لوگوں کو یہ
خوشخبری نہ سناؤں۔ آپؐ نے فرمایا رہنے دو وہ یہ بات سن کر اس پر تکیہ کر کے
بیٹھ جائیں گے اور نا سمجھی سے عمل چھوڑ دیں گے۔

Hazrat Mu'az^{ra} was riding pillion with the Holy Prophet^{sa} when the latter called him by name and he responded: At your service, Messenger of Allah, may you be happy. This was repeated three times and thereafter the Holy Prophet said: Of the servants of Allah whoever affirms with perfect sincerity of heart that there is none worthy of worship save Allah and that Muhammad is His servant and His Messenger will be safeguarded by Allah against the Fire. Mu'az said: Messenger of Allah, shall I proclaim this among the people so that they may be cheered? He said; No, lest they should depend entirely upon this. Mu'az disclosed this only at the approach of death, fearing lest he should be held guilty of holding back something that was within his ken (Bukhari and Muslim).

Source: [Hadiqatus Saliheen](#) (Urdu) pg. 840 & [Gardens of the Righteous](#) (English), #418 pg. 93

Prayer / Class #1 / Memorize the following prayers with translation

From hadith, we know that after finishing his Prayer the Holy Prophet^{sa} used to ask forgiveness of Allah saying three times:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

I seek forgiveness from Allah for all my sins and turn to Him. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے، ہر گناہ سے اور میں توبہ کرتا ہوں اسی کے حضور

And then he^{sa} recited the following Prayer:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ

O our Lord! Thou art (the embodiment of) peace. And true peace comes from Thee. Blessed art Thou, O Lord of Majesty and Bounty. ”اے اللہ! تو سلام ہے اور تجھ سے ہی ہر قسم کی سلامتی ہے۔ تو بہت برکتوں والا، جلال والا اور اکرام والا ہے۔“

(Sahih Muslim, Kitabul-Masajid wa mawadhi'us-Salata, Bab Istihbabu-dhikri ba'das-Salat)

Apart from the above-mentioned prayer, the following were also recited by the Holy Prophet^{sa} after Prayer:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ
هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا
الْجُبْدِ مِنْكَ الْجُبْدُ

There is no one worthy of worship except Allah. He is alone and has no partner. Sovereignty and praise are only for Him and He has full authority over everything. O Allah! Nobody can hold back whatever You have granted and none can grant what Thou hold back. And no great person can benefit from his greatness in opposition to Thy Greatness.

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! نہیں کوئی روکنے والا اس چیز کو جو تو نے عطا کی اور نہیں ہے کوئی دینے والا اس چیز کو جو تو نے روک دی۔ اور نہیں فائدہ دیتی بزرگی والے کو تیرے سامنے کوئی بزرگی۔“

(Sahih Bukhari, Kitabus-Salat, babu dhikri ba'das-Salat)

Etiquette of Salat / Class #2

Please read the following guidance of Sayyedna Hazrat Khalifatul Masih V^{aa} on **How to wake up for the Tahajjud prayer during winter** in the following article of *Al Fazl* and its translation in *Al Hakam*. May Allah ta'ala guide all sisters to understand and act upon this divine guidance. Ameen!

سوال: اسی ملاقات میں ایک مرہی صاحب نے عرض کیا کہ حضور نے شروع میں نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے۔ سردیوں میں تو انسان آسانی سے تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے لیکن مستقل طور پر اور ان ممالک میں گرمیوں میں اس کی عادت ڈالنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا:

جواب: یہ تو Depend کرتا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے۔ کتنی اللہ سے محبت ہے۔ باقی کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں نا؟ اگر گرمیوں میں رہتے ہوئے رات کو دس بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے یا ساڑھے دس بجے ہوتی ہے اور صبح ڈھائی بجے، پونے تین بجے یا تین بجے ہوتی ہے۔ (یہاں بلکہ یو کے میں اس سے جلدی سحری ہو جاتی ہے۔ وہاں پھر ایک گھنٹہ لیٹ سحری ہوتی ہے۔ آدھا پونا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔) تو دو گھنٹے سوئیں، ڈیڑھ گھنٹہ سوئیں۔ پھر اٹھ کے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نماز فجر کے بعد پھر ایک دو گھنٹے سو جائیں۔ یہ تو اپنا پروگرام خود بنانا پڑتا ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے کی دل میں تڑپ ہو تو سب رستے نکل آتے ہیں۔ جب جامعہ میں آپ کے امتحان ہو رہے ہوتے تھے اور پڑھنے کا شوق ہوتا تھا تو رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے نا؟ یا کوئی فکر پیدا ہوئی ہو تو تہجد پڑھتے ہیں نا؟ یہ تو سوچ کی بات ہے۔ اگر آپ سوچ کو اس طرح ڈھال لیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو لوگ تو رات کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سوتے ہیں۔ اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ پھر صبح نماز فجر کے بعد جب باقی وقت ہوا سو گئے۔ یہ تو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سارا دن بھی تو آپ کو مل جاتا ہے۔ دوپہر کو نیند پوری کرنے کے لیے ایک گھنٹہ سو لیا کریں۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جوانی میں ہی عبادت ہوتی ہے جو ہوتی ہے۔ آپ تو نوجوان لوگ ہیں آپ لوگوں کا ہی وقت ہے۔ یہی وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور عبادت کا جتنا حق ادا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری

وقت پیری گرگ ظالم میشود پرمیرگار

Source: <https://www.alfazl.com/2021/09/11/34790/>

In the same virtual mulaqat [of the missionaries of Germany with Hazrat Amirul Momineen, Khalifatul Masih V^{aa}, which was held on 15 November 2020], a missionary asked, “Huzoor^{aa} mentioned Tahajjud prayers in the beginning. One can easily wake up during the winter period, but what would be the best way to do this on a regular basis throughout the year here in these countries?”

Huzoor^{aa} replied: “This depends on how deep your relationship is with Allah the Exalted and how much love you have for Him. You do manage to take time for other things. Do you not? If the Isha prayers are offered at 10 pm or 10:30 pm in Germany, and the morning prayers are offered at 2:30 am, or 2:45 am or 3 am ... in fact, sehri is a lot earlier here in the UK whilst it is an hour later in Germany. There is a difference of approximately 30-45 minutes.

“So, sleep for two hours, or one and a half hours, then wake up to offer prayers and then go to sleep again for an hour or two after offering the Fajr prayer. One has to make their own routine.

“If one has a yearning or passion to do something within their heart, then one manages to find ways to do those things. During your exam period in Jamia, you had to study and you stayed awake during the nights to prepare for the exams; you offer Tahajud whenever you are concerned about something, right? This is all about mindset. If you can train your mindset to achieve this goal, then Allah the Exalted will help you.

“There are people who sleep for an hour and a half at night, and then wake up to offer the Tahajud prayer and then sleep after the Fajr prayer for whatever time they have.

“You will have to manage time for this. After all, you have the whole day available to you besides this. You can sleep for an hour in the afternoon in order to catch up on sleep. This is not a difficult matter. One can actively perform worship in their youth. You people are young. This is your time [to do this]. This is the time to reap as much benefit as you can from this. Do your best to fulfil the rights of worship to your maximum capacity.

“To be pious in one’s youth is the way of the prophets. In old age, even a ferocious wolf becomes virtuous.”

Source: <https://www.alhakam.org/answers-to-everyday-issues-part-xx-fridays-mourning-the-dead-women-at-hajj-missing-a-prayer-and-guidance-for-missionaries/>

The Promised Messiah's^{as} Book

FOUR QUESTIONS BY MR. SIRAJUDDIN, A CHRISTIAN, AND THEIR ANSWERS

- The Christian concept of Redemption through 'Accursed Sacrifice' is an abomination and a blasphemy against a beloved Prophet of God.
- Jesus of Nazareth did not die on the cross and did not become accursed.
- The Holy Quran has perfected the concept of Tauhid, or the Unity of God, although it was also taught by past scriptures.
- The teachings of the Holy Quran are meant for all people and all times. Earlier scriptures confined their teachings to specific people or nations.
- Islam enjoins 'love' only for God, while in relation to mankind it teaches 'mercy' and 'compassion'.
- Wars waged during the time of the Holy Prophet(sa) were to repel aggression and not to force Islam upon others.

These are some of the points elucidated by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian^{as}, (the Promised Messiah and Mahdi, founder of the Ahmadiyya Muslim Community), while responding to four questions sent to him by Mr. Sirajuddin, a Muslim who had turned to Christianity.

مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام: [سراج الدین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب](#)

روحانی خزائن جلد 12

To read this book in English, please click here: <https://www.alislam.org/library/books/Four-Questions-Sirajuddin.pdf>

Advanced Reading (Optional)

Are you finished the assigned book above?

We invite you to learn more about the importance of Kalimah below

"The Pillars of Islam", *The Essence of Islam Vol. 2*, [pg 293-295](#)

&

شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں، پھلی شرط بیعت، [صفحہ 13-17](#)

"Condition I", Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadi, [pg 15-19](#)

Khilafat Ala Minhajun Nabuwwah / History of Khilafat

Link to Book: <https://www.alislam.org/urdu/pdf/Khilafat-ala-Minhaj-un-Nubawt-2.pdf>

Class #1: Vol 2 page 334 to 336

Class #2: Vol 2 page 337 to 339

Advanced Reading (Optional)

*We encourage you to learn more about the importance of Khilafat.
Please click on the title to read the book.*

برکاتِ خلافت

حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد، المصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی

Blessings of Khilafat

by Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II^(ra)

Pearls of Wisdom / Guidance of Khilafat

Please watch the following two video clips to learn the guidance of Hazrat Khalifatul Masih V^{aa} on these important questions.

Why is it important to have religion?

<https://youtu.be/450CDq-xmwY> (length 4:17)

How to increase your faith and trust in Allah the Almighty?

https://youtu.be/9_CtMhFio0c (length 3:29)

Tabligh Activity / Class #1 / 5 min Overview by Secretary Tabligh

The *Kalimah* is an affirmation of a Muslim's belief in One God and a verbal declaration that we will not commit *Shirk*. This month, members are encouraged to discuss with your Tabligh contacts the following:

How important is God in our lives?

Remember to first contemplate this question in relation to yourself first. Ponder over the Quranic verses we are learning this month – what do they tell us about a monotheistic God? Formulate a response to this question so that you can have a better discussion with your contacts.

Additional Activities (Optional)

1. **Read:** “[Restoring World Peace](#)”, Address at Peace Symposium UK 2007 of Sayyedna Hazrat Khalifatul Masih V^{atba}
(or watch the address here: <https://www.alislam.org/video/peace-symposium-2007/>)
2. Remember that October is recognized as **Islamic Heritage Month in Canada**.
→ Please promote and join in the Jama'at's [Islamic Heritage Month Expo 2022](#)
→ Please make the effort to organize and participate in local activities happening in your community, schools and places of work.
3. As October is the start of the new Lajna year, **please make the effort to make new contacts**.

What Should We do? / Class #2/ 15 min Tarbiyati Discussion

This month we are reviewing the first pillar of Islam, the *kalimah*. The sincere declaration of [kalimah shahadah](#) is the first step into Islam. For Muslims, this declaration of faith is a compass that ensures that we believe Islam to be not just a religion, but a *way* of life. The very word “Islam” means peace, and thus, the Islamic way of life should be one that strives for peace in our personal lives and society at large.

In a world that is increasingly turning away from God, I’m noticing that some of my family and friends around me are not comfortable or interested in practicing their faith or even thinking about it. I think this is having a negative impact on my own level of faith. What should I do to stay connected with Allah and help my family/friends?

Note to Teachers: In order to have a beneficial and engaging discussion, please review the teaching guide resources below and prepare your own notes.

Self-Study/Teaching Guide

Click on each reference below to learn more

Before we concern ourselves with our family/friends, it’s important to strengthen our own relationship with God first. Sayyedna Hazrat Khalifatul Masih V^{aa} reminds us often to take account of ourselves and be honest about our own weaknesses and turn to God for mercy and forgiveness and the strength to improve ourselves morally and spiritually.

Please ask Lajna members what we should do ensure we are staying connected with God on a daily basis? Once we are firm in our own faith, is there anything we can do to help our family/friends? (hint: prayer is key)

Click on each reference below to learn more the importance of God and how to increase our own faith:

1. [Remembrance of Allah](#) by Hazrat Khalifatul Masih II^{ra}

ذکر الہی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، المصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی

2. [Invitation to Ahmadiyyat](#) by Hazrat Khalifatul Masih II^{ra}

دعوۃ الامیر، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، المصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی

3. [Our God](#) by Hazrat Mirza Bashir Ahmad^{ra} M.A.

ہمارا خدا، حضرت مرزا بشیر احمد، ایم اے

4. [Is it possible to be good without God?](#) *The Quest of a Curious Muslim*

5. Videos from The God Summit 2022:

- a. [Making Sense of Faith](#)
- b. [The Case for God’s Existence](#)
- c. [Is the God Conversation Dead](#)

Spending in the Way of Allah / Blessings of Financial Sacrifice

Instructions

Majalis are requested to give **Local Secretary Mal Sahiba** 5 minutes to present the following material during the first class this month.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٤﴾
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢٥﴾
أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٦﴾

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اُتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اُتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں
یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔
*Who believe in the unseen and observe Prayer, and **spend out of what We have provided for them;** And who believe in that which has been revealed to thee, and that which was revealed before thee, and they have firm faith in what is yet to come. **It is they who follow the guidance of their Lord and it is they who shall prosper.** (Al Baqarah 2:4-6)*

Hazrat Abu Huraira^{ra} reported the Holy Prophet^{sa} as stating that Allah the Almighty says

“Spend with an open heart, Allah will spend upon thee”

(Sahih Muslim Kitabu Zakat)

One of the main characteristics of the righteous is their spending in the way of Allah, for which Allah blesses them abundantly, as seen from the Quranic verses and Hadith above.

Keeping in view the importance and blessings of Financial Sacrifices, it is important that all the Lajna should know about the Lajna’s obligatory chanda and pay it on time as per the prescribed rate. Here is the detail of Lajna’s obligatory Chanda:

EARNING LAJNA MEMBERS PAY:	Lajna Membership: 1% of monthly income Lajna Ijtema: \$2/month Lajna Isha’at: \$5/year
NON-EARNING LAJNA MEMBERS PAY:	Lajna Membership \$2/month Lajna Ijtema: \$2/month Lajna Isha’at: \$5/year

FOR MORE DETAILS, PLEASE VISIT THE MAL DEPARTMENT PAGE ON LAJNA.CA